

سٹریٹھم ہیئر سٹارٹ ایریا میں بچوں کے سنٹر کی خدمات کی فراہمی کے بارے میں اظہار رائے کیجئے

پس منظر

دسمبر 2018 سے فروری 2019 کی مدت کے دوران، لیمبیتھ کونسل نے بچوں کے مرکز کے حوالے سے اپنی پیش کردہ خدمات میں تبدیلی لانے کی تجاویز پر وسیع پیمانے پر مشاورت کی۔ یہ تجاویز قومی حکومت کی طرف سے ڈیڈیکٹیو سکول گرانٹ کے ابتدائی سالوں کے لیئے ہونے والی تبدیلیوں کے جواب میں پیش کی گئیں جس کا مطلب یہ تھا کہ کونسل کے پاس بچوں کے مراکز پر خرچ کرنے کے لئے بہت کم رقم تھی۔

اس مشاورتی عمل میں، کونسل نے تجویز پیش کی کہ سٹریٹھم کے علاقے میں بچوں کا ایک 'بنیادی' مرکز (کور چلڈرنز سنٹر) ہوگا جو سوموار سے جمعہ تک کے لیئے خدمات کا ایک مکمل پروگرام پیش کرے گا، اور دو 'لنک' بچوں کے مراکز سیشن کی بنیاد پر خدمات پیش کریں گے - جو یا تو ہر صبح یا ہر دوپہر، یا کم دنوں کے لیئے ہوں گے۔ بچوں کے تجویز کردہ مراکز درج ذیل ہیں۔

- ہدر فیلڈ چلڈرنز سنٹر: کور سینٹر
- سٹریٹھم ہب چلڈرنز سنٹر: لنک سینٹر
- وڈ مانسٹرن چلڈرنز سنٹر: لنک سینٹر

ان تجاویز کے تحت، سنی ہل چلڈرنز سنٹر میں بچوں کے سنٹر کی خدمات کی فراہمی بند ہو جائے گی۔

اس مشاورت کے دوران، وڈ مانسٹرن سکول اور چلڈرن سینٹر کی حیثیت میں تبدیلیاں آئیں۔ یہ تبدیلیاں دارالحکومت میں توسیع کے اس اہم کام سے متعلقہ ہیں جو کونسل نے سکولوں کی فراہمی کو بڑھانے کے لئے شروع کیا ہے اور وڈ مانسٹرن سکول کو چوتھی فارم انٹری پرائمری سکول بنانے اور اسی جگہ پر ایک نیا پانچویں فارم انٹری سیکنڈری سکول مہیا کرنے، اور مقامی بچوں اور کنبوں کو نرسری سے لے کر سال 11 تک کا ایک ہی سکول فراہم کرنے کے لئے اہتمام کیا ہے۔

وڈ مانسٹرن سکول کی خاصی توسیع کی ضرورت نے سکول کی عمارت اور مقامی کمیونٹی ڈھانچے پر اضافی بوجھ ڈالا ہے۔ اگرچہ وڈ مانسٹرن سکول ابتدائی سالوں کی بہترین خدمات کی مسلسل فراہمی کے لئے اپنے عزم کو برقرار رکھے ہوئے ہے، لیکن انفرادی سال کے گروپوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ سکول کی عمارت میں بچوں کے سنٹر کی خدمات کی فراہمی قابل عمل نہیں ہوگی۔

مشاورت کے عمل میں سنی ہل چلڈرنز سنٹر میں خدمات کی فراہمی بند کرنے کی تجاویز پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔

کونسل کی فیصلہ سازی کے عمل کے حصے کے طور پر وسیع مشاورت سے اپریل 2019 میں لیمبیتھ کونسل کی کابینہ کو پیش کی جانے والی سفارشات کی عکاسی ہوئی۔ ان میں ایک سفارش یہ بھی شامل تھی کہ سٹریٹھم میں مزید مشاورت کی جائے تاکہ اس امر کے بارے میں نظریات کو اکٹھا کیا جائے کہ علاقے میں ایک کور مرکز اور دو لنک (ون کور اینڈ ٹو لنکس) مراکز کون سے ہونے چاہئیں۔

مزید مشاورت موسم گرما 2019 میں کی گئی تھی جو ان تجاویز پر مرکوز تھی۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے جواب دیا بہت سارے لوگوں نے سنی ہل چلڈرن سینٹر کو بچوں کے سنٹر کی خدمات کی فراہمی کے لیئے ایک مقام کے طور پر برقرار رکھنے کو خوش آمدید کہا، سٹریٹھم ویل کے علاقے میں رہنے والے خاندانوں کے لئے خدمات تک رسائی اور قریبی مرکزی سنٹر کے طور پر ہدر فیلڈ تک سفر کے فاصلے پر تشویش برقرار رہی۔

مشاورتی دستاویز کا مقصد

اس تشویش کی روشنی میں، اس مشاورتی دستاویز پر نظر ثانی کے بعد از سرنو تشکیل شدہ تجاویز کا خاکہ پیش کیا گیا ہے اور آپ کو اپنے خیالات کا ہم سے اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ ان نظر ثانی شدہ تجاویز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دستیاب خدمات دستیاب وسائل کے ساتھ بچوں کے مراکز کی عمارت کو جتنا ممکن ہو ان کے جغرافیائی پھیلاؤ کو یقینی بنایا جاسکے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ سٹریٹھم میں رہنے والے بچوں

اور کنبوں اور خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو مدد کی ضرورت ہے، بچوں کے مرکز کی خدمات متواتر استعمال کرنے کے لیے دستیاب ہوں۔

سٹریٹھم کے علاقے کے لئے نظر ثانی شدہ تجاویز یہ ہیں:

• ہدر فیلڈ چلڈرنز سنٹر کو ایک کور سنٹر کے طور پر برقرار رکھا جائے اور ہدر فیلڈ پرائمری سکول کی عمارت میں اور ہلسائڈ گارڈنز میں قیام اور کھیل (سٹہے اینڈ پلہے) کے 'ون او کلاک کلب' کے ساتھ بچوں کے دونوں سینٹر کی عمارات میں خدمات فراہم کی جائیں۔

• ایک لنک سنٹر کی حیثیت سے سنی ہل چلڈرن سینٹر کو برقرار رکھا جائے لیکن کچھ خدمات ہدر فیلڈ سے سنی ہل میں منتقل کر کے پیش کردہ خدمات کی تعداد اور اقسام میں اضافہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گذشتہ مشاورتی عمل کے نتیجے میں تجویز کردہ منصوبے کے مقابلے میں سنی ہل میں خدمات کی اضافی سطح ہوگی، جو اظہار رائے اور اس خواہش کی عکاسی کرتی ہے کہ بارو کے جنوب میں کنبوں کو زیادہ سے زیادہ رسائی فراہم کی جا سکے۔ ہدر فیلڈ اور سنی ہل کے بچوں کے مراکز میں مشترکہ خدمات کی پیش کش ایک کور اور ایک لنک سینٹر کے ذریعے فراہم کردہ خدمات کے برابر ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مراکز میں ہر ہفتے بچوں کی تقریباً 15 خدمات کی فراہمی ہوگی۔

• سٹریٹھم حب چلڈرنز سنٹر کو لنک سینٹر کی حیثیت سے برقرار رکھیں جس کی خدمات ہر ہفتے دو دن کے لیے فراہم کی جائیں۔

• سٹریٹھم ویل ون او کلاک کلب میں ہر ہفتے ایک اضافی سٹہے اینڈ پلہے سیشن کی پیش کش۔ ان تجاویز کے تحت، اس سیشن کو سٹریٹھم یوتھ اور کمیونٹی ٹرسٹ کی طرف سے پیش کیا جائے گا، جو ون ڈے کلب کے ذمہ دار ہیں، لیکن وہ سٹریٹھم ایریا بیٹھر سٹارٹ ٹیم کے ساتھ قریبی شراکت میں کام کریں گے، جو کنبوں کے لئے اضافی معلومات اور معاونت فراہم کرنے کے لیے مستقل بنیادوں پر سیشن میں شرکت کرے گی۔

کونسل کیوں سوچتی ہے کہ یہ ترمیم شدہ تجاویز سٹریٹھم بیٹھر سٹارٹ ایریا میں بچوں اور کنبوں کی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کریں گی۔

کونسل طویل مدتی بنیادوں پر وڈ مینسٹرن چلڈرن سینٹر سے بچوں کی سنٹر خدمات کی فراہمی جاری نہیں رکھ سکتی ہے۔ مشاورت کے ذریعے وڈ مینسٹرن سکول سے منسلک مقامی طور پر رہنے والے والدین نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہدر فیلڈ پرائمری سکول اور چلڈرن سینٹر کے درمیان فاصلے کے بارے میں فکر مند ہیں۔ سنی ہل چلڈرنز سنٹر، جو سٹریٹھم کا زیادہ مرکزی ہے، میں ایک بڑی تعداد میں سہولیات کی فراہمی کے ذریعے کونسل کو امید ہے کہ ان میں سے کچھ سفری مشکلات کا ازالہ ہو گا۔

تجاویز پر نظر ثانی کرتے ہوئے، کونسل نے اس بات پر غور کیا کہ آیا سنی ہل کی بجائے سٹریٹھم حب چلڈرن سینٹر میں خدمات کی تعداد میں اضافہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ تاہم، کنبوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ سنی ہل چلڈرن سینٹر کو ایک خصوصی طور پر تشکیل کردہ بچوں کے مرکز کی حیثیت سے بہتر، محفوظ بیرونی کھیل کی جگہ گردانتے ہیں۔ یہ بیرونی جگہ سٹریٹھم حب میں دستیاب نہیں ہے اور نہ ہی ہوسکتی ہے اور اس سے وہ سرگرمیاں محدود ہوجاتی ہیں جن کی پیش کش کی جا سکتی ہے۔ کونسل سنی ہل میں بچوں کے مرکز کی عمارت کی بھی مالک ہے لیکن اس کے علاوہ سٹریٹھم حب میں جگہ کے استعمال کے لیے کرایے کا معاہدہ ہے جس کی وجہ سے سٹریٹھم حب کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا مہنگا پڑے گا۔

وڈ مینسٹرن سکول کے علاقے میں رہنے والے لیمبیتھ کے کنبے ایک اضافی سٹہے اینڈ پلہے سیشن میں بھی جاسکیں گے جو سٹریٹھم ویل ون او کلاک کلب میں چلایا جائے گا۔ اس سیشن کا انعقاد سٹریٹھم یوتھ اینڈ کمیونٹی ٹرسٹ کے ذریعے ہوگا، جس میں وسیع تر سٹریٹھم بیٹھر سٹارٹ ٹیم کی مدد و معاونت حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جن خاندانوں کو بیٹھر سٹارٹ کارکن سے اضافی مدد کی ضرورت ہوگی وہ آسانی سے اور اپنے مقامی علاقے میں اس تک رسائی حاصل کرسکیں گے۔ کنبے آن لائن ریفرل کے عمل کے ذریعے بھی اضافی مدد حاصل

كرسكياں گے، جو ؤه اٲنے بيلته وزير يا سٹاف ٹيم سے ذاتي طور پر رابطہ كر كے يا سٹريٲهم حب، سني بل يا ٲدرفيلڈ چلٹرن سينٹرز كے ساٲه بذريعه فون رابطہ كر كے كر سكتے ٲيں۔